

# Suratul Mujadilah

An Saukar Da Ita A Madinah

## ❖ Daga Manufofin Surar:

Bayyana ilimin Allah gamamme, da yadda ilimin ya kewaye komai da komai, domin a tarbiyantar da mutum a kan halarto da Allah a koyaushe, da tsoratarwa a kan sava masa.

## ❖ Tafsir:

❶ Haqika Allah ya ji maganar matar nan (Khaulatu 'yar Sa'alaba) wadda take ta bibiyar ka - Ya kai wannan Manzo game da mijinta (Ausu xan Samit) Lokacin da ya yi mata zihari, tana kai kukanta zuwa ga Allah game da abin da mijinta ya yi mata. Haqika Allah yana jin muhawararku, babu abin da yake vuyar masa. Tabbas Allah mai jin maganganun bayinsa ne, kuma mai ganin ayyukansu ne, babu abin da yake vuyar masa a ciki.

❷ Waxanda suke yi wa matansu zihari. Shi ne xayansu ya cewa matarsa: "Ke bayanki a wurina kamar bayan mahaifiyata yake". Wannan magana da suke faxa qarya ce, matayensu ba iyayensu mata ba ne, iyayensu mata su ne waxanda suka haife su, kuma haqika su a yayin da suke faxin wannan magana, to suna faxin magana mai muni ne da qarya. Haqika Allah mai yawan afuwa ne kuma mai yawan gafara, don haka ya shar'anta musu yadda zasu yi kaffara, don su kuvuta daga laifi.

❸ Waxanda suke faxar wannan magana mai muni, sannan suke so su sadu da matansu da suka yi musu zihari, to ya wajaba a kansu su yi kaffara ta hanyar 'yanta baiwa kafin su sadu da su. Wannan hukuncin da aka ambata, an umarce ku da shi ne, don tsoratar da ku daga barin yin zihari, kuma Allah masani ne mai bada labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, babu abin da yake vuya a gare shi na daga ayyukanku.

❹ Wanda bai samu baiwar da zai 'yanta ta daga cikinku ba, to ya wajaba a kansa ya yi azumin wata biyu a jere, kafin ya sadu da matarsa, wadda ya yi mata zihari. Wanda kuma ba zai iya yin azumin wata biyu a jere ba, to ya wajaba a kansa ya ciyar da miskinai guda sittin. Wannan hukuncin da muka yanke, domin ku yi imani Allah ne ya yi umarni da shi, sai ku kamanta umarninsa, kuma waxannan hukunce-hukuncen da muka shar'anta muku iyakokin Allah ne, waxanda ya iyakancewa bayinsa, don haka kada ku qetare su. Waxanda suka kafircewa hukuncin Allah da iyakokinsa suna da azaba mai raxaxi.

❺ Haqika waxanda suke gaba da Allah da Manzonsa an qasqantar da su kuma an wulaqanta su, kamar yadda aka wulaqanta waxanda suka yi gaba da shi daga cikin al'ummun da suka gabata. Haqika mun sauƙar muku da ayoyi bayyanannu. Waxanda suka kafircewa Allah da Manzanninsa suna azaba ta qasqanci.

❻ A ranar da Allah zai tashe su gaba xaya, ba zai bar wani daga cikinsu ba, sai ya basu labarin duk munanan ayyukan da suka aikata a duniya, Allah ya lissafe su gaba xaya, babu abin da ya kubce masa, amma su sun manta da su, sai suka same su a rubuce, a cikin takardun da basa barin qarami abu ko babba face sai sun qididdige shi. Haqika Allah mai ganin komai ne, babu wani aikinsu da yake vuya a gare shi.

## ❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Tausayin Allah ga masu rauni daga cikin bayinsa, ta fuskar amsa addu'arsu da taimakon su.

2 - Yana daga cikin rahamar Allah ga bayinsa, nau'anta kaffarar zihari gwargwadon iyawar mutum, domin bawa ya fita daga qunci.

3 - A qarshen ayoyin zihari Allah ya ambaci kafirai, domin ya nuna cewa zihari aikinsu ne, don haka ya ga dacewar ya kawo wasu daga cikin halayensu

سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ ٥٤٢

سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ  
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝١ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ  
مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي  
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ  
اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ ۝٢ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ  
لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ  
بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ  
مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ  
مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَعْدَابُ أَلِيمٌ ۝٤ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَلَا يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ نَبَأٌ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ يَتَّبِعُ  
وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَعْدَابُ مُهِينٌ ۝٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ  
بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٦

Suratul Mujadila 542 Juzu'i 28

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ  
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى  
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا  
 عَمَلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ  
 نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّجُونَ بِالْآثِمِ  
 وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ  
 بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ  
 جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا أَفِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  
 تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْآثِمِ وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ  
 وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا  
 النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ  
 شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

7 Ya kai wannan Manzo, shin baka san cewa Allah yana san duk abin da yake cikin sammai da qassai ba, babu abin da yake vuya a gare shi daga cikin abubuwan da suke cikinsu. babu wasu mutane guda uku da zasu tattauna a voye, face Allah ya zama shi ne na huxunsu da iliminsa, haka kuma babu wasu mutum guda biyar da zasu tattauna a voye, face Allah ya zama shi ne na shidan su da iliminsa, ko qasa da wannan adadi ko kuma sama da haka face ya zama tare da su da iliminsa, a duk inda suke, babu wani abu na zancensu da yake vuya a gare shi, sannan Allah zai basu labarin abin da suka aikata ranar tashin alqiyama. Haqika Allah masani ne ga dukkan komai, babu abin da yake vuya a gare shi.

8 Ya kai wannan Annabi shin baka ga Yahudawan da suke ganawa ba idan suka ga mumini, sai Allah ya hana su ganawar, amma sai ga shi suna qara komawa ga abin da Allah ya hana su, suna ganawa a tsakaninsu da abin da yake laifi ne, irinsu yin gulmar mumina, da a bin da yake ta'addanci ne ga mumina, da abin da yake savawa Manzo ne. Kuma idan suka zo wurinka - Ya kai wannan Manzo - sai su gaishe ka da gaisuwar da Allah bai gaishe ka da ita ba, ita ce faxinsu: (As-Samu alaika) wato suna nufin: (Mutuwa ta tabbata a gare ka) kuma suna qaryata Annabi a cikin maganar da suke cewa: "Me ya hana Allah ya azabtar da mu a kan abin da muke faxesha, ai da ace gaskiya yake cikin da'awarsa shi Annabi ne da Allah ya azabtar da mu a kan abin da muka faxesha masa!. Amma Jahannama ta ishe su

uquba a kan abin da suka faxesha, zasu sha fama da zafin ta, makomarsu ta yi muni.

9 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, kada ku gana da abin da yake zunubi ko qetare iyaka ko savawa Manzo ne, domin kada ku zama kamar Yahudawa, maimakon haka, ku gana da abin da yake yi wa Allah xa'a ne da barin savonsa. Ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa, da kuma nisantar haninsa, domin gare shi ne kaxai za a tara ku ranar alqiyama, domin yi muku hisabi da kuma sakayya.

10 Ganawar da take qunshe da zunubi da qetare iyaka da savawa Manzon Allah, duk daga qawatawar shaixan ne da wasiwasinsa ga waliyyansa, domin ya baqantawa Muminai cewa ana shirya musu makirci, sai dai wasiwasin Shaixan da qawatawarsa ga wani aiki ba zai cutar da Muminai komai ba, sai idan Allah ya ga dama, ya bada iko, ga Allah kaxai ya wajaba Muminai su dogara a cikin duk al'amuran su.

Yayin da Allah ya ambaci ladabin magana sai kuma ya ambaci ladabin wurin zama, ya ce:

11 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta, idan aka ce muku: "Ku yalwata a wurin zama, to ku yalwata, Allah zai yalwata muku a rayuwarku ta duniya da lahira. Kuma idan aka ce muku ku tashi daga wani wuri, don masu falala su zauna, to ku tashi kawai. Allah yana xaunka waxanda suka yi imani daga cikinku, da waxanda aka basu ilimi zuwa darajoji masu girma. Haqika Allah masani ne mai bada labari ga abin da kuka kasance kuna aikatawa, babu abin da yake vuya a gare shi daga ayyukanku, kuma zai saka muku a kansu.

### ✿ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Duk da cewa Allah maxaukaki ne da zatinsa a kan halittarsa, sai dai yana tsinkayensu da iliminsa, babu abin da yake vuya a gare shi.

2 - Yayin da ya zama da yawa daga cikin mutane suna xaunkar alhaki wurin ganawa, sai Allah ya umarci Muminai da cewa idan zasu gana to su gana a kan ayyukan alheri da tsoron Allah.

3 - Yana daga cikin ladabin wurin zama a buxawa waxanda suka zo daga baya.

12 Yayin da sahabbai suka yawaita ganawa da Annabi (S.A.W) sai Allah ya ce: “Ya ku waxanda suka yi imani, idan kuka yi nufin ganawa da Manzon Allah, to ku gabatar da wata sadaqa kafin ku gana da shi. Wannan gabatar da sadakar shi ne ya fi muku alheri da tsarki, saboda abin da yake cikin haka na yi wa Allah xa’a, wadda take tsarkake zukata, amma idan baku samu abin da zaku yi sadakar ba, to babu laifi a kanku, ku gana da shi, kuma Allah mai gafarta zunuban bayinsa ne, kuma mai jin qansu ne, ta yadda bai xora musu komai ba, sai abin da bai fi qarfinsu ba.

13 Shin kuna jin tsoron talauci ne wajen gabatar da sadaka idan zaku gana da Annabi (S.A.W)?! To tunda baku aikata abin da Allah ya umarce ku ba, to Allah ya yafe muku, yayin da ya yi muku rangwame wajen barin ta, to ku tsaida sallah, a cikin siffa mai kyau, ku bada zakkar dukiyoyinku, ku bi Allah da Manzonsa. Haqiqa Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa, babu abin da yake vuya a gare shi daga ayyukanku, kuma zai saka muku a kansu. 14 Ya kai wannan Manzo, shin baka ga munafukai ba, waxanda suke nuna goyon bayansu ga Yahudawa, waxanda Allah ya yi fushi da su saboda kafircinsu da savonsu, waxannan munafukai basa daga cikin Muminai, kuma basa daga cikin Yahudawa, kawai dai suna yawo ne a tsakiya, basa cikin waxannan, kuma basa cikin waxancan, amma suna yin rantsuwa cewa su musulmai ne, kuma basu kaiwa Yahudawa labaran musulmai ba, alhali qarya suke yi a cikin rantsuwar su.

15 Allah ya tanadar musu azaba mai tsanani a lahira, domin zai shigar da su can qasan wuta, haqiqa abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan kafirci a duniya sun yi muni. 16 Kuma sun riqi rantse-rantsen da suke yi wata kariya ce don kada a kashe su saboda kafircinsu, ta yadda suka bayyana Musulunci da wannan rantsuwa, domin su kare jininsu da dukiyoyinsu, kuma suka kawar da mutane ga barin gaskiya, da abin da suke kai na rauni da kashe gwiwar musulmai, don haka suna da azaba ta qasqanci, da zata qasqanta su da kunyata su. 17 Dukiyoyinsu da ‘ya’yayensu baza su wadatar musu da komai ba a wurin Allah. Waxannan su ne ‘yan wuta, waxanda zasu shige ta, su zauna a cikinta har abada, ba tare da azaba ta yanke musu ba. 18 Ranar da Allah zai tashe su gaba xaya, ba zai bar wani daga cikinsu ba face sai ya tashe shi don bada sakamako, sai su rantse da Allah cewa basu kasance a kan kafirci da munafunci ba, su sun kasance Muminai masu aikata abin da Allah zai yarda da shi ne. Zasu rantsewa Allah a lahira kamar yadda suka kasance suna rantse muku a duniya cewa su musulmai ne, kuma a zaton su wannan rantse-rantse da suke yi wa Allah zasu jawo musu wani amfani, ko su kawar musu da wata cuta. Ku saurara! Haqiqa su maqaryata ne a cikin rantsuwarsu a duniya da rantsuwarsu a lahira. 19 Shaixan yayi galaba a kansu, sai ya mantar da su ambaton Allah, ta hanyar saka musu wasiwasi, don haka basu aikata abin da zai janyo musu yardar Allah ba, sai suka aikata abin da zai sa ya yi fushi. Waxannan da suka siffanta da waxannan siffofi su ne rundunar shaixan da mabiyansa, kuma tabbas rundunar shaixan da mabiyansa su ne suka yi asara a duniya da lahira, kuma sun sayar da shiriya sun sayi vata, sun sayar da Aljannah sun sayi wuta. 20 Haqiqa waxanda suke gaba da Allah, kuma suke gaba da Manzonsa, waxannan suna cikin waxanda Allah ya wulaqanta a duniya da Lahira, kuma ya kunyata su daga cikin al’ummun da suke kafirai. 21 Allah ya riga ya yanke a cikin iliminsa da ya gabata cewa sai na samu nasara ni da Manzannina a kan maqiyannu, da hujja da qarfi. Haqiqa Allah mai qarfi ne wajen taimakon Manzanninsa, kuma mabuwayi ne da yake xaugar fansa a kan maqiyansa.

✳️ **Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:** 1 - Tausasawar Allah ga Annabinsa (S.A.W) ta yadda ya ladabtar da sahabbansa a kan kada su quntata masa, da yawaita ganawa da shi. 2 - Yana daga halin munafukai jivintar lamarin Yahudawa. 3 - Tavewar Ma’abota kafirci, da samun galabar ma’abota imani sunna ce ta Allah wadda zata iya yin jinkiri, amma bata tava qin zuwa ko samuwa.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذْ أَنْبَجْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ  
صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
١٣ ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا  
وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٤ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا  
قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ١٦ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُتَّةً فَمَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَاهْتَمَّ  
عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧ لَنْ نَغْنِي عَنْهُمْ ءَمْوَالَهُمْ وَلَا ءَأْوَالِدُهُمْ مِنَ اللَّهِ  
شَيْئًا ءَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٨ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ  
اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ ءَكَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  
عَلَى شَيْءٍ ءَأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ١٩ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ  
فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ءَأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ءَأَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ  
هُمُ الْخَاسِرُونَ ٢٠ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ءَأُولَئِكَ فِي ءَأَذْيَانِ  
٢١ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ ءَأَنَا وَرُسُلِي ءَأَبَّ اللَّهُ قَوِيٌّ ءَعَزِيزٌ ٢٢

22 Ya kai wannan Manzo, ba zaka samu mutanen da suka yi imani da Allah, kuma suka yi imani da ranar alqiyama ba, suna jivintar wanda ya yi gaba da Allah da Manzonsa ba, koda kuwa waxannan maqiya Allah da Manzonsa xin iyayensu ne, ko 'ya'yansu, ko 'yan uwansu, ko dangin da suke dangantuwa zuwa gare su, saboda imani yana hana jivintar maqiya Allah da Manzonsa, kuma saboda alaƙar imani ta fi xaukaka a kan dukkan alaƙoqi, shi ake gabatarwa a kan komai yayin da aka samu cin karo. Waxannan da basa qaunar waxanda suke gaba da Allah da Manzonsa, koda makusantan su ne, su ne waxanda Allah ya tabbatar da imani a zukatansu, baya canzawa, kuma ya qarfafa su da hujja da haske daga wurinsa, kuma ranar alqiyama zai shigar da su Aljanatai na zama, wanxada qoramu suke gudana a qarqashin gine-ginenta, za su zauna a ciki har abada, ni'imarta ba zata yanke ba, kuma ba zata gare ba. Allah ya yarda da su, yardar da babu fushi bayanta har abada, su ma sun yarda da Allah, saboda abin da ya basu na ni'imar da bata garewa, daga cikinta akwai ganin Allah tsarki ya tabbata a gare shi. Waxannan masu waxanda suka siffatu da abin da aka ambata rundunar Allah ce, waxanda suke kamanta abin da ya yi umarni, kuma suke kamewa daga abin da ya hana. Ku saurara, Haqiqa rundunar Allah su ne masu rabauta da abin da suke nema, kuma suke kuvuta daga abin da yake ba su tsoro a duniya a lahira.

## Suratul Hashri

An Saukar Da Ita A Madinah

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

آياتها ٢٤

سُورَةُ الْحَشْرِ

ترتيبها ٥٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

♦ **Daga Manufofin Surar:** Bayyana qarfin Allah da buwayarsa wajen raunana Yahudawa da Munafukai, da kuma bayanin rabuwar kawunansu, a gefe guda kuma an bayyana haxin kan Muminai.

♦ **Tafsir:** 1) Dukkan abin da yake cikin sammai da qassai na halittu yana tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba, kuma yana girmama shi. Allah shi ne mabuwayin da babu mai rinjayarsa, kuma shi ne mai hikima a halittarsa, da shari'arsa, da qaddarawar sa. 2) Allah shi ne wanda ya fitar da Yahudawan Banu Nadir, waxanda suka kafirce wa Allah, kuma suka qaryata Manzonsa Muhammad (S.A.W) daga cikin gidajensu a garin Madinah, a karo na farkon fitarsu daga Madinah zuwa Sham, alhali suna cikin Yahudawa ma'abota Attaura, bayan sun warware alqawarinsu, sun biyewa Mushirikai, sai ya fitar da su zuwa qasar Sham. Ya ku Muminai baku tava zaton zasu fita daga cikin gidajensu ba, saboda qarfinsu da kariyar da suke da ita, kuma su ma sun yi zaton katangun su waxanda suka gina su zasu kare su daga uqubar Allah, sai uqubar Allah ta zo musu ta inda basu tava zato ba, yayin da Manzon Allah ya yi umarni a yaqe su, kuma a kore su daga cikin gidajensu, sai Allah ya shigar da tsoro mai tsanani a cikin zukatansu, da kansu suka riqa rusa gidajensu ta ciki, domin kada musulmai su amfana da su, su kuma musulmai suna rusa gidajen ta waje. Ya ku ma'abota gani ku wa'azantu da abin da ya afkawa waxannan Yahudawa saboda kafircinsu, kada kuma ku zama kamar su, sai ku samu irin sakayyar da uqubar da aka yi musu. 3) Kuma ba don Allah ya rubuta za a fitar da su daga cikin gidajensu ba, da ya azabtar da su a duniya ta hanyar kisa da kamu, kamar yadda Allah ya yi wa 'yan uwansu daga Banu Quraizah, kuma a lahira suna da azabar wuta, wadda take jiran su, suna masu dauwama a cikinta har abada.

♦ **Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:** 1 - Duk soyayyar da zata saka musulmi ya qi barranta daga addinin kafiri, kuma ya qi qyamar sa, to haramtacciya ce, amma soyayya ta xabi'a, kamar Musulmi ya so xan uwansa kafiri, wannan ta halatta. 2 - Alaƙar imani ta fi kowace alaƙa qarfi a tsakanin masu imani. 3 - Mavarnata zasu iya xaukaka, har a yi zaton ba za su karye ba, amma sai karyewarsu ta zo ta inda basa zato. 4 - Yana daga cikin qaddarawar Allah ga mutane kawar musu da musibu ta hanyar farar da musibun da basu kai na su ba.

4 Wannan abin da ya same su, ya same su ne domin sun yi qiyayya da Allah, kuma sun yi qiyayya da Manzonsa, ta hanyar Kafircin su da warware alqawuransu, kuma duk wanda ya yi qiyayya da Allah, to ya sani fa Allah mai tsananin uquba ne, kuma uqubarsa mai tsanani zata same shi.

5 Ya ku taron Muminai, babu wata bishiyar dabino da zaku sare don ku fusata maqiya Allah a yaqin Banu Nadhir ko kuma ku barta a tsaye a kan qwaurinta domin ku amfana da ita, face sai da umarnin Allah, kuma yin hakan baya cikin varna a bayan qasa, kamar yadda wasu suke riyawa, kuma Allah ya tsara haka ne domin ya qasqanta waxanda suka qi yi masa xa'a, daga cikin Yahudawa waxanda suka warware alqawari, suka zavi hanyar yaudara a kan hanyar cika alqawari.

6 Abin da Allah ya ba wa Manzonsa na dukiyar Banu Nadhir, ai baku yi wata gaggawa zuwa ga nemansa a kan dawakai ko raquma ba, kuma baku sha wata wahala a kansa ba, yadda lamarin yake shi ne Allah ya xora Manzanninsa a kan wanda ya ga dama, don haka Allah ya xora Manzonsa a kan Banu Nadir, ya buxe garuruwansu ba tare da wani yaqi ba. Allah mai iko ne a kan komai, babu abin da yake gagararsa.

7 Abin da Allah ya yi wa Manzonsa ni'ima da samunsa daga cikin dukiyar mutanen wani gari, ba tare da yin yaqi ba, to wannan abu na Allah ne, zai ba wa wanda ya ga dama, kuma mallakin Manzon Allah ne da makusantasa daga Banu Hashim da Banu Muxxalib, madadin abin da aka hana su na karvar sadaka. Haka nan na marayu ne da talakawa, da baqon da guzurinsa ya qare, don kada kewayar dukiya ta taqaita a kan mawadata banda talakawa. Duk abin da Manzon Allah ya baku na dukiyar da aka samu to ku karva – Ya ku muminai – abin da kuma ya hana ku, to ku hanu. Ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa, da nisantar abubuwan da ya hana. Haqiqqa Allah mai tsananin uquba ne, don haka ku ji tsoron uqubarsa.

8 Kuma za a sarrafa wani vangare na wannan dukiya ga talakawan da suka yi hijira saboda Allah (Almuhajiruun), waxanda aka tursasa su suka bar dukiyar su, da 'ya'yansu, suna masu kwaxayin Allah ya basu falalarsa, ya azurta su a duniya, kuma ya yarda da su a lahira, kuma suna taimakon Allah da Manzonsa ta hanyar yin jihadi don xaukaka tafarkin Allah. waxannan da suka siffantu da waxannan siffofi su ne tabbatattu na gaske a cikin imani. Yayin da Allah ya ambaci Almuhajiruna, ya yabe su, sai ya ambaci mutanen Madinah, su ma ya yabe su ya ce:

9 Da mutanen Madinah waxanda suka riga masu hijira mutanen Makkah zama a garin Madinah, suka kuma zavi imani da Allah da Manzonsa, suna son duk wanda ya yi hijira daga Makkah zuwa gare su, kuma basa jin wani haushi ko hassada a kan waxanda suka yi hijira saboda Allah, don an ba su wani vangare na dukiyar da aka samu, su kuma ba a basu ba, kuma suna gabatar da masu hijira a kan kansu a cikin abubuwan duniya, ko da kuwa suna da buqatar abin ko suna cikin talauci. Duk wanda Allah ya kare shi daga kwaxayin dukiya, ya bada ita saboda Allah, to waxannan su ne waxanda suka rabauta da samun abin da suke nema, da tsira daga abin da suke tsoro.

### ❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Aikata abin da ake zaton varna ne domin samar da babbar maslaha baya shiga cikin yin varna a doron qasa.
- 2 - Daga cikin kyawun musulunci, akwai kulawa da wanda suke da buqatar dukiya, don haka musulunci ya ce a basu dukiyar da aka samu ba tare da yaqi ba (Wato Fai'u), su kaxai banda mawadata, saboda wadatuwa da abin da yake wurinsu.
- 3 - Fifita wani alhali mutum yana da buqatar abin, matsayi ne mai girma a cikin Musulunci, kuma hakan ya bayyana sosai a cikin mutanen Madinah.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْهَا قَاطِمَةً عَلَىٰ أَسْوَئِهَا فَإِنَّ اللَّهَ وَليُخْزِي الْفَاسِقِينَ ۝ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا  
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ  
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ  
نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا  
وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ  
﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ  
وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ  
أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ  
لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يَقْتُلُونَ كُفْرًا جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ  
أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا  
وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا  
كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

10 Waxanda suka zo bayan waxannan, kuma suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar alqiyama, suna cewa: “Ya ubangiji ka gafarta mana, da ‘yan uwanmu waxanda suka riga mu yin imani da Allah da Manzonsa, kada ka sanya wani jin haushi ko qullaci a cikin zukatanmu ga wani mutum daga cikin Muminai. Haqiqa kai ya Ubangijinmu mai tausasawa ne ga bayinka, kuma mai jin qansu ne”.

11 Ya kai wannan Manzo, shin baka ga waxanda suka voye kafirci suka bayyana imani ba, suna cewa ‘yan uwansu a cikin kafirci daga Yahudawa mabiya Attaura wadda aka canza ta: “ku yi zamanku a cikin gidajenku ba zamu tozarta ku ba, ba zamu bayar da ku ba, kuma idan musulmai sun fitar da ku daga Madinah to zamu fita tare da ku, don goya muku baya, kuma babu wanda zamu saurara a kan ya hana mu fita tare da ku. Idan kuma suka yaqce ku to zamu taimaka ku. Allah yana shaidawa munafukai qarya suke yi cikin abin da suka yi da’awa na fita tare da Yahudawa idan an fitar da su, da yaqi tare da su idan an yaqce su.

12 Idan har musulmai suka fitar da Yahudawa daga gidajensu, baza su tava fita tare da su ba, kuma da zasu yaqce su, baza su tava taimakonsu ba, kuma da ace zasu taimaka musu a kan musulmi da guduwa zasu yi, sannan baza su qara taimakon munafukai ba. Allah zai qasqanta su ya wulaqanta su.

13 Ya ku Muminai, wallahi ku ne waxanda munafukai da Yahudawa suke jin tsoro a

zuciarsu fiye da Allah. Wannan abin da aka faxa na tsananin tsoron da raunin tsoronsu ga Allah ya faru ne saboda su mutane ne da basa fahimta kuma basa ganewa, domin da suna ganewa da sun san Allah ne ya fi cancanta a ji tsoronsa, saboda shi ne yake xora ku a kansu.

14 Kuma Yahudawa baza su iya yaqar ku suna dunqule ba - Ya ku Muminai - sai dai a cikin alqaryu waxanda suke kewaye da ganuwa, ko ta bayan katanga, baza su iya fuskantar ku ba saboda tsoronsu, kuma a tsakaninsu maqiya juna ne sosai saboda gabar da take tsakaninsu, sai ka yi zaton duk kalmarsu xaya ce, sahusu xaya, amma fa alal-haqiqa zukatansu a rarrabe suke. Wannan rabuwa da savani da gaba saboda basu da hankali ne, domin da suna da hankali da sun san gaskiya, kuma da sun bi ta, baza su yi savani a cikinta ba.

15 Misalin waxannan yahudawa wurin kafircinsu da abin da ya afka musu na uquba, kamar misalin waxanda suke gabanin su ne daga cikin mushirikan Makkah a lokutan baya da suka wuce, sai suka xanxani mummunan sakamakon kafircinsu, aka kashe wanda aka kashe, aka kama waxanda aka kama a ranar yaqin Badar, kuma a lahira suna da azaba mai raxaxi.

16 Misalinsu wurin sauraron su ga munafukai, kamar misalin shaixan ne yayin da ya qawatawa mutum yin kafirci, to bayan ya kafirce sanadiyyar qawata masa kafirci, sai Shaixan ya ce da shi: “Na barranta da kai, domin ka yi kafirci. Haqiqa ni ina tsoron Allah Ubangijin halitta”.

### ✿ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Alaqar imani bata canzawa saboda tsawon lokaci da canzawar wuri.

2 - Abotar munafukai ga Yahudawa da wasunsu abota ce wadda bata gaskiya ba, tana gushewa a lokacin tsanani.

3 - Yahudawa matsorata ne basa iya yin gaba da gaba a yaqi, kuma idan ta kama dole sai sun yi yaqin, to suna voyewa a cikin alqaryunsu da makamansu.

17 Sai qarshen lamarin Shaixan da waxanda suka bi shi a ranar alqiyama ya zama shi ne wuta, zasu zauna a cikinta har abada. Wannan sakamakon da yake jiran su, shi ne sakamakon waxanda suka zalunci kawunansu da qetare iyakokin Allah.

18 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, ku ji tsoron Allah, ta hanyar kamanta umarninsa, da nisantar abubuwan da ya hana, kuma kowace rai ta lura da abin da ta gabatar na aiki nagari, domin ranar alqiyama. kuma ku ji tsoron Allah, Haqiqa Allah masani ne mai bada labari ne ga ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa, babu abin da yake vuya a gare shi daga ayyukanku, kuma zai saka muku a kansu.

19 Kada ku kasance kamar waxanda suka mance da Allah, ta hanyar barin kamanta umarninsa, da barin nisantar abubuwan da ya hana, sai Allah ya mantar da su kawunansu, basu aikata abin da zai tseratar da su daga fushin Allah da uqubarsa ba. Waxannan da suka manta da Allah, basu kamanta umarninsa ba, ba su bar abin da ya hana ba, su ne masu fita daga xa'ar Allah.

20 'Yan wuta da 'yan Aljannah baza su tava zama xaya ba, sun bambanta a cikin sakamakonsu kamar yadda ayyukansu suka bambanta a duniya. 'Yan Aljannan su ne masu rabauta da samun abin da suke nema, da kuvuta daga abin da suke jin tsoronsa.

21 Da a ce mun saukar da wannan Alqur'ani a kan dutse, da ka ga wannan dutsen – duk da qarfinsa – ya zama mai laushi da tsagewa saboda tsananin tsoron Allah, saboda da abin da yake cikin Alqur'ani na wa'azuzzuka masu razanarwa, da alqawarin narkon azaba mai tsanani. Waxannan misalai muna buga su ne ga mutane ko sa yi aiki da hankulansu, su wa'azantu da abin da Alqur'ani ya qunsa na ayoyi da wa'azi da izina.

22 23 Shi ne Allah wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi, masanin abin da yake voye da abin da yake bayyane, babu abin da yake vuya a gare shi daga cikin haka, kuma mai rahamar a duniya da lahira, mai jinqai a cikinsu, rahamarsa ta yalwaci dukkan talikai, mai cikar mulki, mai tsarki mai girma daga kowace irin tawaya, kuvutacce daga kowane irin aibu, mai gasgata Manzanninsa da ayoyi na ban mamaki, mai kula da ayyukan bayinsa, Mabuwayin da babu mai rinjayarsa, mai qarfin da qarfinsa ya fi dukkan komai, mai ji da isa. Ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da Mushirikai suke haxa shi da su, na gumaka da sauransu.

24 Shi ne Allah wanda ya halicci dukkan komai, wanda ya samar da komai, wanda ya suranta halittarsa yadda ya ga dama. Allah mai tsarki yana da sunaye mafiya kyau, waxanda suka qunshi siffofi na xaukaka. Abubuwan da suke cikin sammai da qassai suna tsarkake shi daga kowace tawaya, shi ne Mabuwayin da babu mai rinjayarsa, mai hikima a cikin halittarsa, da shari'arsa, da tsarawarsa.

### ❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Yana daga cikin alamomin dacewar Mumini, ya riqa yi wa kansa hisabi a duniya, tun gabanin a yi masa hisabi a lahira.
- 2 - Cikin tunatar da mutane irin tasirin Alqur'ani a kan dutse mai girma, akwai faxakarwa gare su cewa, mutane ne suka fi cancanta da wannan tasiri saboda raunin da yake tare da su.
- 3 - Sunayen Allah: (Mahalicci, mai qirqirar halitta, mai suranta halitta) suna nuna matakan da aka bi wurin halittar xan Adam, na tsara shi, da samar da shi, sannan da sanya masa sura kevantacciya da shi. Kuma ambaton suna xaya daga cikinsu yana nuna sauran.

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ  
الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ  
مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾  
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا  
الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَلِشًا مَّتَّصِدًا ءَعْمَآءَ مِن خَشْيَةِ  
اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾  
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ  
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ  
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ  
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

سورة الحشر  
١٣ آياتها  
٦٠ ترتيبها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ  
إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ  
وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِ  
وَإِتِّغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَحْفَيْتُمْ  
وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١ إِنْ  
يَتَّقَوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمُ  
بِالسُّوءِ وَوَدُّوا التَّوَكُّفُونَ ۝٢ لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٣ قَدْ كَانَتْ  
لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا  
بُرءَاءُ أَوْلَادِنَا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا  
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ۝٤ الْإِقْوَالُ  
إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَعْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمَّلُكَ لَكِ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝٥  
رَبَّنَا عَلَّمَكِ تَوْكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝٦ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا  
فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٧

### Daga Manufofin Surar:

Kuvutar da zukan Muminai daga goyon baya da jivintar wanin addini, wanda ba addinin Allah Maxaukakin sarki ba.

### Tafsir:

1 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, kada ku riqi maqiyana kuma maqiyanku masoya, ya zama kuna son su, kuna jivintar lamarinsu, alhali sun kafircewa abin da ya zo muku na addini ta hannun Manzonku, suna fitar da Manzo daga gidansa, kuma suna fitar da ku daga gidajenku na Makkah, babu ruwansu da kusanci da yake tsakaninku ko 'yan uwantaka, kuma ba don komai ba sai don kun yi imani da Allah Ubangijinku, don haka kada ku jivinci lamarinsu, idan har da gaske kun fita jihadi saboda ni (Allah), kuma don neman yardata, ya zama kuna asirta musu labaran musulmai, saboda qaunarsu da kuke yi. Haqiqa ni na fi kowa sanin abin da kuka voye a zukatanku da abin da kuka bayyana, babu abin da yake vuya a gare ni daga cikinsu. Don haka duk wanda ya nuna wannan qauna, ko jivintar lamari ga kafirai to haqiqa ya vace wa hanya ta qwarai, kuma ya aikata ba daidai ba.

2 Matuqar suka samu dama a kanku, to za su bayyana muku abin da suka voye a cikin zukatansu na qiyayya, kuma su miqa hannayensu

a kanku su cutar da ku da duka, su saki harsunansu a kanku da zagi da cin mutunci, kuma su yi burin ina ma zaku kafircewa Allah da Manzonsa, don ku zama irinsu.

3 kusacinku ko 'ya'yanku baza su amfana muku da komai ba, idan kuka jivinci kafirai saboda su, a ranar alqiyama Allah zai raba tsakaninku, ya shigar da 'yan Aljanna daga cikinku Aljannah, ya shigar da 'yan wuta daga cikinku cikin wuta, don haka sashenku ba zai amfani sashe ba, kuma haqiqa Allah mai gani ne ga ayyukan da kuke aikatawa, babu abin da yake vuya a gare shi daga cikin ayyukanku, kuma zai yi muku sakayya a kansu.

4 Ya ku Muminai, haqiqa kuna da kyakkyawan koyi game da Annabi Ibrahim (A.S) da Muminai da suke tare da shi, yayin da suka cewa kafiran mutanensu: "Babu ruwan mu da ku, kuma babu ruwanmu da gumakan da kuke bautawa ba Allah ba, mun kafircewa addinin da kuke kai, kuma mun qulla gaba da qiyayya a tsakaninmu da ku har sai kun yi imani da Allah shi kaxai, ba tare da yin shirka da shi ba, don haka ku ma ya kamata ku barranta daga kafiran mutanenku kamar yadda suka aikata, Amma banda maganar da Annabi Ibrahim ya faxawa babansa cewa: "Tabbas zan nema maka gafarar Allah". To a nan kada ku yi koyi da shi, domin ya fahi hakan ne kafin ya xebe qauna daga babansa, kuma haramun ne Musulmi ya nemawa wani Mushiriki gafara. (Annabi Ibrahim ya ci gaba da cewa babansa) ba zan iya kare maka komai daga azabar Allah ba, Ya Ubangijina gare ka muka dogara a cikin al'amuranmu gaba xaya, kuma gare ka muka koma muna masu tuba, sannan gare ka makoma take a ranar alqiyama. 5 Ya Ubangijinmu kada ka sanya mu jarrabawa ga kafirai ta hanyar xora su a kanmu, har su rika cewa: "Da a kan gaskiya suke da ba a xora mu a kansu ba" Ya Allah ka gafarta mana laifukanmu, haqiqa kai mabuwayi ne, wanda ba a rinjayarsa, kuma mai hikima a halittarsa, da shari'arsa, da tsarawar sa.

### Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Fitar da labaran sirri na Musulmi zuwa ga kafirai laifi ne babba daga cikin manyan laifuka a musulunci.
- 2 - Qiyayyar kafirai ga musulmai qiyayya ce da ta samo asali, don haka nuna musu soyayya baya yin tasiri.
- 3 - Neman gafarar Annabi Ibrahim ga babansa saboda alqawarin da ya yi masa ne, amma da Allah ya hana shi yin hakan, saboda ya mutu a kan kafirci, sai Annabi Ibrahim ya daina nema masa gafarar.



6 Wannan koyin mai kyau ba kowa ba ne yake kyaikwayon sa sai wanda yake kwaxayin alheri daga wajen Allah a duniya da lahira. Kuma duk wanda ya bada baya ga barin wannan kwaikwayo mai kyau, to ya sani fa Allah mawadaci ne ga barin bayinsa, baya buqatar xa'arsu, kuma shi ne abin yabo a kowane hali.

7 Ya ku Muminai, ya kusata Allah ya sanya soyayya a tsakaninku da waxanda kuka yi qiyayya da su daga cikin kafirai, ta hanyar Allah ya shiryar da su zuwa ga musulunci, sai su zama 'yan uwanku a addini. Haqiqa Allah mai iko ne, yana da iko ya juya zukatansu zuwa ga imani. Kuma Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa, kuma mai jin qansu ne.

8 Allah baya hana ku ku kyautatawa waxanda basu yaqe ku ba, saboda musuluncin ku, kuma basu fitar da ku daga cikin gidajenku ba, Allah bai hana ku kyautata musu ku yi musu adalci ba, ta hanyar ku ba su haqqinsu da yake kanku, kamar yadda Nana Asma'u 'yar Abukakar Assidiq ta yi wa mahaifiyar ta kafira, lokacin da ta zo wurinta, bayan Asma'u ta nemi izinin Manzon Allah (S.A.W) sai ya bata umarnin ta je ta gaishe ta. Haqiqa Allah yana son masu adalci, waxanda suke yi wa kansu adalci da iyalansu da waxanda suke qarqashin su.

9 Kaxai Allah yana hana ku, ku kyautatawa masu yaqar ku ne, saboda imaninku, kuma suka fitar da ku daga gidajenku, sannan suka taimaka a wajen fitar da ku daga gidajenku, Allah ya hana ku jivince su, kuma duk wanda ya jivince su daga cikinku, to waxannan su ne masu zaluntar kansu, ta hanyar kai kansu ga halaka, sakamakon savawa Allah.

10 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta, idan Muminai mata masu hijira suka zo muku, suna masu yin hijira daga qasar kafirci zuwa qasar musulunci, to ku jarraba su a kan gaskiyar imaninsu. Allah ne mafi sani da imaninsu, babu wani abu da yake vuya a gare shi daga abin da zukatansu suka voye. Idan kuka gane su muminai ne, daga abin da ya bayyana a gare ku na gaskiyarsu, bayan kun jarraba su, to kada ku mayar da su zuwa ga mazajensu kafirai, don baya halatta mata muminai su auri kafirai, haka ma baya halatta kafirai su auri mata muminai, ku ba mazajensu abin da suka bayar na sadakinsu. Babu laifi a kanku – Ya ku muminai – ku aure su bayan gama iddarsu, matuqar dai kun basu sadakinsu. Wanda matarsa ta kasance kafira, ko ta yi ridda ta bar musulunci to kada ya zauna da ita, saboda aurensu ya yanke da kafircinta, ku tambayi kafirai su baki abin da kuka bayar na sadakin matanku da suke yi ridda, su ma su tambaye ku, ku basu abin da suka bayar na sadakin matansu da suka musulunta. Wannan abin da aka ambata na mayar da sadaki ta vangarenku, da mayar da sadaki ta vangaren su, shi ne hukuncin Allah, wanda ya hukunta a tsakaninku da abin da ya ga dama. Allah masanin halin bayinsa ne, da ayyukansu, babu abin da yake vuya a gare shi daga cikinsu, kuma mai hikima ne cikin abin da yake shar'antawa bayinsa. 11 Kuma idan da za a ce wasu daga cikin matayenku zasu fita zuwa ga kafirai suna masu barin musulunci, kuma kuka nemi sadakinku a wurin kafirai amma basu baki ba, sai kuka samu ganima daga kafirai, to ku bawa mazajen da matayen nasu suka yi ridda gwargwadon abin da suka kashe na sadaki. Ku ji tsonon Allah wanda kuka yi imani da shi, ta hanyar kamanta umarninsa, da kuma nisantar haninsa.

### Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Irin yadda Allah yake juya zuciya daga qiyayya zuwa soyayya, ko kuma daga kafirci zuwa imani, akwai nuni cewa zukan bayi suna tsakanin 'yan yatsun Ubangiji mai tsarki, don haka bawa ya nemi Allah ya tabbatar da shi a kan imani.
- 2 - Banbancewa a tsakanin kafirai masu yaqar musulmai da kuma waxanda basa yaqar musulmai.
- 3 - Haramcin auratayya da kafira wadda ba ahlu-kitabi ba, sabon aure ko zarcewa a kan na da, haka nan da haramcin auratayyar musulma da kafiri, sabon aure ko kuma zarcewa a kan na da.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
﴿٧﴾ لَا يَهْدِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم  
مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
﴿٨﴾ إِنَّمَا يَهْدِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن  
دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ  
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا  
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ جُلُودُهُنَّ وَلَا هُمْ يُجَالُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ  
مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ وَسَعَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا  
ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ  
شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَابِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَأَبْتُمْ فَمَا تَوَلَّ الَّذِينَ ذَهَبَتْ  
أَرْوَابُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَعْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾  
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَدْسُوا مِنْ الْأَخِرَةِ كَمَا يَدْسِ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

آيَاتُهَا ١٤

سُورَةُ الصَّفِّ

تَرْتِيبُهَا ١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾  
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾  
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرَّصُونَ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ لِمَ تَوَدُّونَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ﴿٥﴾

12 Ya kai wannan Annabi, idan mata Muminai sun zo maka suna yi maka mubaya'a (caffa) - kamar yadda ya faru a yaqin buxe Makkah, a kan baza su yi shirka da Allah ba, zasu bauta masa shi kaxai, kuma baza su yi sata ba, kuma baza su yi zina ba, kuma baza su kashe 'ya'yan su ba, kamar yadda suka saba a lokacin jahiliyya, kuma baza su dangana 'yayansu na zina zuwa ga mazajensu ba, kuma baza su sava maka a cikin duk wani abu mai kyau ba, kamar hana kuka da xaga murya da ihu idan an yi mutuwa, ko aske gashin kai saboda baqin ciki, ko yayyaga tufafi, to ka yadda ka karvi mubaya'arsu, kuma ka nema musu gafarar Allah, bayan sun yi maka mubaya'a. Haqiqa Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba gare shi daga cikin bayinsa, kuma mai rahama ne a gare su.

Yayin da ya zama surar ta fara ne da tsoratarwa a kan jivinta da nuna qauna ga maqiya Allah, don haka sai surar ta cike da tsoratarwa a kan hakan, don qara qarfafa abin da ya gabata. Allah ya ce:

13 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, kada ku jivinci lamarin mutanen da Allah ya yi fushi da su, kuma basu sakankance da lahira ba, kai sun ma xebe qauna, kamar yadda suka xebe qauna a kan dawowar mamatansu zuwa gare su, sakamakon kafirce wa tashin alqiyama.

## Suratus Saffi

An Saukar Da Ita A Madinah

### Daga Manufofin Surar:

Zaburar da Muminai a kan taimakon addinin

Allah, da yin jihadi don tabbatar da tafarkinsa.

#### Tafsir:

1 Dukkan abin da yake cikin sammai da qassai na halittu suna tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba. kuma shi ne mabuwayin da babu mai rinjayarsa, mai hikima a halittarsa, da shari'arsa da qaddarawar sa.

2 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, don me kuke kuke cewa, mun aikata kaza, alhali baki aikata ba?!. Kamar faxin xayanku: "Na yi yaqi da takobina, na doki kaza" alhali bai yi yaqi da takobinsa ba, kuma bai doki komai ba. 3 Wannan abu maras kyau ya munana kuma ya girmama a wurin Allah, shi ne ku riqa faxar abin da bakwa aikatawa, domin ba abin da ya kamata ga Mumini face dai ya zama mai gaskiya tare da Allah, aikinsa yana gasgata maganarsa.

4 Haqiqa Allah yana son muminai da suke yin jihadi a kan tafarkinsa, don neman yardarsa, suna masu yin sahu, sashensu a gefen sashe, kai kace gini ne wanda yake haxe da junansa.

Yayin da Allah ya ambaci yaqi, kuma ya yabi Muminai masu yin sahu a wajen yaqi a kan tafarkinsa, sai kuma ya ambaci yanayin da sahabban Annabi Musa da Annabi Isa suka kasance a kai na savawa Manzaninsu, domin ya tsoratar da Muminai a kan savawa Manzonsu, ya ce:

5 Ya kai wannan Manzo, ka tuna lokacin da Annabi Musa (A.S) ya cewa mutanensa: "Ya ku mutanena, me yasa kuke cutar da ni, ta hanyar savawa umarnina, alhali kun san cewa ni Manzon Allah ne zuwa gare ku?!. To a yayin da suka kaucewa saqon da ya zo musu da shi na gaskiya, sai Allah ya kautar da zukatansu ga barin karvar gaskiyar da daidaita a kanta, haqiqa Allah baya datar da marasa yi masa biyayya ga gaskiya.

6 Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa: 1 - Shar'ancin yi wa shugaban musulmai mubaya'a a kan ji da biyayya da tsoron Allah. 2 - Wajabcin aikata gaskiya a cikin ayyuka, da dacewar ayyuka da maganganu a kan gaskiya. 3 - Allah ya bayyanawa bawa hanyoyin alheri da na sharri, don haka idan bawa ya zavi hanyar vata da karkacewa bai tuba ba, to Allah zai yi masa uquba ta hanyar qara masa karkacewa da vacewa.

6 Ya kai wannan Manzo, ka tuna lokacin da Annabi Isa xan Maryam (A.S) ya ce: “Ya ku banu isra’ila, ni manzon Allah ne gare ku, ya aiko ni gare ku, ina mai gasgata littafin da ya sauka gabanina na Attaura, kuma ba ni ne na farkon daga cikin Manzanni ba, kuma ina yi muku albishir da wani Manzo da zai zo bayana sunansa Ahmad” amma lokacin da Annabi Isa ya zo musu da hujjoji bayyanannu, da suke nuna gaskiyarsa, sai suka ce masa: “Wannan tsafi ne bayyananne, don haka ba zamu yi masa biyayya ba”.

7 Babu wanda ya kai tsananin zalunci fiye da mutumin da ya qirqiri qarya ga Allah, ta yadda ya sanya masa abokan tarayya da kishiyoyi, yana bauta musu koma bayansa, alhali ana kiransa zuwa ga musulunci, addinin kaxaita Allah tsantsa. Haqiqa Allah baya datar da waxanda suka zalunci kansu da yin shirka da savon Allah zuwa ga abin da shiriyar su take cikinsa. 8 Waxannan masu qaryatawa suna son su dishe hasken Allah, ta hanyar miyagun maganganun da suke fitowa daga gare su, don vata gaskiya, Allah zai cika haskensa koda basa so, ta hanyar ya xaukaka addininsa a duniya gabas da yammacin ta.

9 Allah shi ne wanda ya aiko Manzonsa Muhammad (S.A.W) da addinin musulunci, addinin shiriya da nusarwa zuwa ga alheri, kuma addinin ilimi mai amfani da aiki nagari, don ya xaukaka shi a kan sauran addinai baki xaya, koda kuwa mushirikai basa son hakan, kuma basa son ya samu kafuwa a bayan qasa.

10 Yaku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki abin da ya shar’anta musu, shin bana nusar da ku ga wani kasuwanci mai riba ba, kuma wanda zai tseratar da ku daga azaba mai raxaxi ba?.

11 Wannan kasuwanci mai riba shi ne ku yi imani da Allah da Manzonsa, kuma ku yi jihadi a tafarkin Allah mai tsarki, ta hanyar ciyar da dukiyarku, da bada kawunanku domin neman yardar Allah. Wannan aikin da aka ambata shi ne mafi alheri a gare ku in har kun sani, don haka ku yi gaggawa zuwa ga wannan kasuwanci.

12 Ribar wannan kasuwanci shi ne Allah zai gafarta muku zunubanku, kuma ya shigar da ku Aljannatai waxanda qoramu ke gudana ta qarqashinsu da bishiyoyinsu, kuma ya shigar da ku wasu gidaje na zama masu kyau a cikin Aljannatai na zama, waxanda babu tashi daga cikinsu, wannan sakamako da aka ambata shi ne babban rabo, wanda babu rabon da ya kai shi.

13 Daga cikin ribar wannan kasuwanci akwai wani abu da kuke so na gaggawa a duniya, shi ne Allah ya baku nasara da galaba a kan abokan gabarku, kuma ya yi muku buxi na kusa, shi ne buxe garin Makkah da wasun ta. To ya kai wannan manzo ka bawa Muminai labarin abin da zai faranta musu rai a duniya na samun nasara, da kuma rabauta da Aljanna a lahira.

14 Yaku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da shar’anta musu, ku kasance mataimakan Allah, ta hanyar taimakon ku ga addininsa, wanda Manzonsa ku ya zo da shi, kamar irin taimakon hawariyawa a lokacin da Annabi Isa (A.S) ya ce musu: “Wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah?” Sai suka amsa masa cikin gaggawa suka ce: “Mu ne mataimaka Allah” sai wani vangare na banu isra’ila suka yi imani da Annabi Isa (A.S) wasu kuma suka kafirce masa, sai muka qarfafi waxanda suka yi imani da Annabi Isa (A.S) a kan waxanda suka kafirce da shi, sai suka wayi gari suna masu cin nasara.

✦ **Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:** 1 - Busharar Annabawan farko da zuwan Annabinmu (S.A.W) yana nuna gaskiyar Annabcinsa. 2 - Addini ya kafu sunna ce ta Allah. 3 - Imani da kuma jihadi a tafarkin Allah suna cikin sababin shiga Aljannah. 4 - Allah yana iya gaggauto da sakamakon mumini a duniya, kuma zai iya ajiye masa ladansa a lahira, amma bai tava tozarta shi ba.

وَذَقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ عَلَىٰ تَجْرَةٍ نُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَقَامَتِ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

الجزء الثامن والعشرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا رَسُولًا مَثَلًا لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِمْ  
 شَهِيدًا ۝ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا  
 مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ  
 يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ  
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  
 ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ  
 دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَتَّوْهُ  
 أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ قُلْ  
 إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ  
 إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

**Daga Manufofin Surar:**

Bayanin kyautar Allah ga wannan Al'umma, ta yadda ya xaukakata ya shiryar da ita, ta hanyar Manzon Allah (S.A.W) bayan da tana cikin vata. Kamar yadda Surar ta yi bayanin lazimtar bin Annabi (S.A.W) da tsoratarwa a kan yin kamanceceniya da Yahudu.

**Tafsir:** 1 Abin da yake cikin sammai da qassai na halittar Allah, yana tsarkake shi daga kowace irin tawaya, yana girmama shi, kuma Allah shi ne wanda ya kaxaita da mulki shi kaxai, tsarkakakke daga dukkan tawaya, Mabuwayi, wanda babu mai rinjayarsa, kuma mai hikima cikin halittarsa, da shari'arsa da tsarawarsa.

2 Allah shi ne wanda ya aikowa larabawan da basa karatu da rubutu Manzo daga jinsin su, yana karanta musu ayoyinsa, waxanda ya saukar da su a gare shi, kuma yana tsarkake su daga kafirci da munanan halaye, kuma yana koyar da su Alqur'ani, yana koya musu Sunnah, kuma haqiqa su larabawan nan sun kasance kafin aiko shi zuwa gare su, suna cikin vata mabayyani daga barin gaskiya, domin suna bautawa gumaka, suna zubar da jini, kuma suna yanke zumunci.

3 Kuma ya aiko wannan Manzo zuwa ga wasu mutanen daban daga cikin larabawa da waxanda ba larabawa ba, waxanda basu zo ba a lokacinsa, amma zasu zo daga baya. Allah shi ne Mabuwayi, wanda babu mai rinjayarsa, kuma mai hikima a

cikin halittarsa, da shari'arsa, da tsarawar sa. 4 Wannan abin da aka ambata na aiko Manzon Allah zuwa ga larabawa da waninsu, falala ce daga Allah, yana bada ita ga wanda ya ga dama. Allah ma'abocin kyautatawa ne mai girma, yana daga cikin kyautatawarsa mai girma aiko Manzo ga wannan al'umma gaba xaya. Yayin Allah ya ambaci baiwar da ya yi ta aiko Manzon Allah, da saukar da Alqur'ani, sai ya ambaci halin da wasu daga cikin mabiya Annabi Musa suka kasance a kai, na bijirewa aiki da abin da yake cikin Attaura, domin ya tsoratar da wannan al'umma kada su kwaikwaye su, ya ce: 5 Misalin Yahudawa waxanda da aka xorawa nauyin aiki da abin da yake cikin Attaura, amma suka bar abin da aka xora musu, kamar misalin jaki ne wanda yake xauke da littafai masu yawa, amma bai san me aka xora masa ba, littafai ne ko wasunsu? Misalin mutanen da suka qaryata da ayoyin Allah ya yi muni, kuma Allah baya datar da azzaluman mutane ga dacewa da gaskiya. 6 Ya kai wannan Manzo ka ce: Ya ku waxanda kuka tsaya a kan addinin Yahudanci bayan an canza shi, idan har kuna da'awar ku waliyyan Allah ne na haqiqa, ya keve ku da walittaka daga sauran mutane, to ku yi burin mutuwa, domin abin da Allah ya kevanke ku da shi na karama ya yi gaggawar samun ku, idan har da gaske kuke yi cikin da'awarku na cewa ku ne Allah yake so. 7 Baza su tava burin mutuwa ba har abada, sai dai ma su yi burin dauwama a duniya, saboda abin da suka aikata na kafirci da savo da zalunci, da gurvata Attaura da canzata, haqiqa Allah shi ne mafi sanin azzalumi, babu wani aikinsu da yake vuya gare shi, kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu.

8 Ya kai wannan Manzo, ka faxawa waxannan Yahudawa ka ce: "Haqiqa mutuwar da kuke guje mata sai ta same ku babu makawa, ko bajima ko mu daxe, sannan a mayar da ku zuwa ga Allah ranar alqiyama, wanda yake masanin abin da yake voye da abin da yake bayyane, babu abin da yake vuyar masa daga cikinsu, sai ya baku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya, kuma yayi muku sakayya a kai.

**Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:** 1 - Girman kyautar da Allah ya yi wa 'yan adam gaba xaya da larabawa a keve, ta aiko musu Annabi (S.A.W), musamman ma larabawa waxanda suka kasance a cikin jahiliyya da vata. 2 - Shiriya falala ce daga Allah shi kaxai, ana neman ta daga wajensa, kuma ana samun ta ta hanyar yi masa xa'a. 3 - Qaryata da'awar Yahudawa da suke cewa: su waliyyan Allah ne, ta hanyar qalubalantar su da su yi burin mutuwa, idan da gaske suke a cikin da'awarsu, saboda ai waliyyi yana shauqin haxuwa da masoyinsa.

9 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, idan mai kiran sallah ya yi kira a ranar Juma'a, bayan liman ya hau kan Minbari, to ku yi gaggawa zuwa masallatai domin sauraron huxuba da halattar sallah, ku bar ciniki, don kada ya shagaltar da ku daga yi wa Allah xa'a. Wannan abin da aka umarce ku da shi, na tafiya zuwa sallah da barin ciniki bayan an kira sallah ranar Juma'a shi ne yafi muku alheri - Ya ku Muminai - da a ce kun san haka, don haka ku kamanta abin da Allah ya baku umarni. 10 Idan kuka kammala sallar Juma'a, to ku watsu a bayan qasa, kuna masu neman halal, kuma kuna masu biyawa kanku buqatunku, ku nema daga falalar Allah, ta hanyar nema na halal da riba halattacciya. kuma ku ambaci Allah da yawa a yayin da kuke neman arziki, kada neman arzikin ya mantar da ku ambaton Allah, ko kwa rabauta da abin da kuke so, ku tsira daga abin da kuke tsoro. 11 Idan wasu daga cikin Musulmai suka yi ido biyu da wani kasuwanci ko wani wasa, sai su watse, su tafi zuwa gare shi, su bar ka - Ya kai wannan Manzo - kana tsaye a kan minbari. To ka ce da su - Ya kai wannan Manzo -: Abin da yake wurin Allah na sakamako a kan aiki na qwarai ya fi alheri a kan kasuwanci da wasa, waxanda kuka fita zuwa gare su. Allah shi ne mafi alherin masu azurtawa.

## Suratul Munafiquun

An Saukar Da Ita A Madinah

6 Daga Manufodin Surar: Tona asirin munafukai, da bayyana siffofinsu da matsayinsu dangane da musulunci da musulmai, domin a tsoratar game da su, da kuma yin kama da su.

### Tafsir:

1 Ya kai wannan Manzo, idan munafukai – waxanda suke bayyana musulunci, su voye kafirci - suka halarci majalisinka suka ce: “Mun shaida tabbas kai Manzoni Allah ne, Allah ya sani tabbas kai Manzonsa ne, kuma Allah ya shaida munafukai qarya suke, cikin da'awarsu cewa sun shaida a cikin zukatansu kai Manzoni Allah ne.

2 Sun sanya rantse – rantsen da suke yi a kan sun yi imani, ya zamo musu kariya daga kisa, da kamu a wurin yaqi, kuma sun kawar da mutane ga barin yin imani, ta hanyar abin da suke yaxawa a cikin mutane na shakku da shaci faxi, tabbas abin da suke aikatawa na munafunci da rantsuwar qarya ya yi muni.

3 Wannan ya faru ne saboda sun yi imani ne a munafince, imanin bai shiga zukatansu ba, sannan kuma suka kafirce wa Allah a voye, don haka sai Allah ya rufe zukatansu saboda kafircinsu, imani baya shiga cikinsu, saboda wannan rufin da Allah ya sanya a kan zukatansu sai ya zama basa fahimtar abin da shiriyarsu take ciki da amfaninsu. 4 Idan ka gan su sai jikinsu da kamanninsu ya baka sha'awa, saboda abin da suke ciki na kwarjini da jin daxi, idan kuma suka yi magana sai ka saurare su, saboda fasahar zance da suke da ita, kai ka ce – Ya Manzoni Allah – idan suna majalisinka wasu katako ne da aka jingine su, basa fahimtar komai, basa kiyayewa komai, suna zaton duk wata murya a kansu take, saboda tsoro. Waxannan su ne maqiya na haqiqa, ka kiyaye su – Ya kai wannan Manzo – kada su yaxa sirrinka ko su yi maka makirci. Allah ya tsine musu, ta yaya ake kawar da su daga imani duk da bayyanar dalilansa, da fitowar hujjojinsa?!

5 Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa: 1 - Wajabcin zuwa sallar Juma'a yayin da aka yi kiran salla, da kuma haramcin duk wani abu wanda ba shi ba na al'amuran duniya, sai dai in da uzuri. 2 - Kevance sura sukutum a kan Munafukai faxakarwa ce gare mu a kan haxarinsu da vuyar lamarinsu. 3 - Abin da ake izina da shi, shi ne gyaran baxini (Zuciya) ba kyan zahiri ko iya magana ba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٨﴾

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ يُحَسِّبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ يُحَسِّبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأْرُءُ وَسْهُمْ  
 وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  
 أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ  
 لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ وَاللَّهُ  
 خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝  
 يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ  
 مِنْهَا الْأَذْلَ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۚ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ  
 الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْخُذْكُمْ  
 أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ  
 ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ  
 مِمَّن قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي  
 إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ  
 يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

آياتها ١٨

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ

ترتيبها ٢٤

5 Idan aka cewa waxannan Munafikai: “Ku zo wurin Manzon Allah, kuna masu bashi uzuri a kan abin da kuka yi, zai nema muku gafarar zunubanku a wurin Allah, sai ka ga sun karkatar da kawunansu, saboda izgili da tsokana, kuma sai ka ga sun bada baya daga abin da aka umarce su da shi, suna masu yin girman kai ga karvar gaskiya, da sunkuya mata.

6 Ya kai wannan Manzo, nema musu gafara, da rashin nema musu gafara duk xaya ne, Allah ba zai gafarta musu zunubansu ba. Haqiqa Allah baya datar da waxanda suka fita daga xa'arsa, waxanda suke zarcewa a kan savonsa.

7 Su ne masu cewa: “kada ku ciyar da dukiyarku ga mutanen da suke wurin Manzon Allah, na daga talakawa, da ‘yan qauye, waxanda suke kewaye da Madinah, har sai sun watse daga wajensa. To taskar da take cikin sammai, da taskar qassai duk na Allah ne shi kaxai, yana azurta wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da ita, sai dai munafikai basu san cewa taskar arziki a hannun Allah Maxaukakin Sarki take ba.

8 Shugabansu Abdullahi xan Ubayyu yana cewa: “Idan muka koma garin Madinah, masu xaukaka – Yana nufin shi da mutanensa - zasu fitar da maqasqanta – Yana nufin Muhammad da sahabbansa - daga cikin Madinah. To su sani xaukaka ta Allah ce da Manzonsa da Muminai, ba ta Abdullahi xan Ubayyu da sahabbansa ba ce, sai da munafikai basu san xaukaka ta Allah ce da Manzonsa da Muminai ba.

Yayin da Allah ya bayyana irin yadda munafikai suke rowar ciyar da dukiyoyinsu a kan tafarkin Allah, sai Allah ya tsawatar wa muminai a kan haka, ya umarce su da ciyarwa a kan tafarkinsa, ya ce:

9 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da shari'arsa, kada dukiyar ku, ko ‘ya’yanku su shagaltar da ku ga barin sallah ko waninta daga cikin farillan Musulunci. Duk wanda dukiyarsa, ko ‘ya’yansa suka shagaltar da shi ga barin abin da Allah ya wajabta masa na sallah da kuma waninta, to waxannan su ne waxanda suka yi asara da gaske, sun yi asarar kansu da iyalansu a ranar alqiyama.

10 Ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku na dukiya tun kafin mutuwa tazo wa xayanku, sai ya riqa cewa Ubangiinsa: “Ya Ubangi in ma dai ka xan jinkirta min zuwa wani lokaci kaxan, in yi sadaka da dukiyata a tafarkin Allah, kuma na kasance daga cikin bayin Allah nagari, waxanda ayyukansu suka zama nagari.

11 Allah mai tsarki baya jinkirtawa wata rai idan ajalinta ya zo, rayuwarta ta qare. Allah masani ne mai bada labari ga abin da bayinsa suka kasance suna aikatawa, babu abin da yake vuyar masa a cikin ayyukansu, kuma zai yi musu sakayya a kai, idan alheri suka aikata zasu gani, kuma idan sharri suka aikata shi ma zasu gani.

### ✿ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Bijirewa nasiha da yin girman kai suna cikin siffon Munafikai.
- 2 - Daga cikin hanyoyin maqiya addini akwai sanya takunkumi ga tattalin arzikin Musulmai.
- 3 - Haxarin dukiya da ‘ya’ya idan suka shagaltar da mutum daga barin ambaton Allah.

**Daga Manufofin Surar:**

Ambaton ihu bayan hari, da kuma munin asarar kafirai ranar tashin alqiyama, domin tsoratar wa a kan kafirci da kafirai.

**Tafsir:** 1 Abin da yake cikin sammai da qassai na halittar Allah, yana tsarkake shi daga kowace irin tawaya, kuma yana girmama shi. Allah shi kaxai ne yake da mulki, babu wani mai mulki wanda ba shi ba, kuma kyakkyawan ambato ya tabbata a gare shi, kuma mai iko ne a kan dukkan komai, babu abin da yake gagararsa.

2 Shi ne wanda ya halicce ku - Ya ku mutane -. Daga cikinku akwai wanda ya kafirce masa, wanda makomarsa ita ce wuta, kuma a cikinku akwai wanda ya yi imani da shi, wanda makomarsa ita ce Aljannah. Allah mai gani ne ga ayyukan da kuke aikatawa, babu abin da yake vuya daga cikin ayyukan ku, kuma zai yi muku sakayya a kai. 3 Ya halicci sammai, kuma ya halicci qassai da gaskiya, bai halicce su don wasa ba, kuma ya suranta ku - Ya ku mutane - sannan ya kyautata surar ku, duk bisa falalarsa, don da ya ga dama da ya sanya surarku ta zama mummuna, kuma gare shi kaxai za a koma ranar tashin alqiyama, ya saka muku a kan ayyukanku, wanda ya aikata alheri ya ga alheri, wanda ya aikata sharri shi ma ya ga sharri. 4 Ya san duk abin da yake cikin sammai, kuma ya san duk abin da yake cikin qassai, kuma ya san duk abin da kuke voyewa na aiki, ya san kuma abin da kuke bayyanawa. Allah masani ne da abin da yake cikin qiraza, na alheri ko sharri, babu abin da yake vuya a gare shi. 5 Ya ku Mushirikai, shin labaran Al'ummun da suka gabata masu qaryatawa basu zo muku ba ne? Kamar mutanen Annabi Nuhu, da Adawa, da Samudawa, da kuma wasun su, sai suka xanxani uqubar abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci a duniya, kuma a lahira suna da azaba mai raxaxi. Tabbas haka ne labaran waxannan masu qaryatawa sun zo muku, don haka ku yi izina mana da yadda qarshen lamarinsu ya kasance, ku tuba ga Allah tun kafin abin da ya same su, ya same ku. 6 Wannan azabar da ta same su, haqiqa ta same su ne saboda Manzannin Allah suna zuwar musu da hujjoji bayyanannu, amma sai suka ce, suna masu inkarin a ce Manzanni su zama daga cikin mutane: "Yanzu mutane ne zasu shiryar da mu zuwa ga gaskiya!?" Don haka sai suka kafirce, suka bijire ga yin imani da Manzannin, sai dai basu cutar da Allah da komai ba, shi kuma Allah ya wadata ga imaninsu da xa'arsu, domin ba zata qare shi da komai ba. Allah Mawadaci ne baya da buqata a wurin bayinsa, kuma shi ne abin yabo a cikin maganganunsa da ayyukansa. 7 Waxanda suka kafirce wa Allah sun riya cewa Allah ba zai tahe su a raye bayan Mutuwarsu ba. Ya kai wannan Manzo, ka faxawa waxannan masu inkarin tashi bayan Mutuwa cewa: "Na rantse da Ubangijina haka yake, tabbas za a tashe ku ranar alqiyama, sannan kuwa wallahi za a baku labarin abin da kuka aikata a duniya. Wannan tashin mai sauqi ne a wurin Allah, don shi ya halicce ku a karo na farko, don haka shi mai iko ne a kan ya tashe ku bayan mutuwarku a raye, don yi muku hisabi da sakayya. 8 Ya ku mutane, ku yi imani da Allah, kuma ku yi imani da Manzonsa, kuma ku yi imani da Alqur'anin da muka saukar wa Manzonsu. Allah Masani ne mai bada labari ga abin da kuka kasance kuna aikatawa, babu wani abin da yake vuya a gare shi daga ayyukanku, kuma zai saka muku a kansu. 9 Ya kai wannan Manzo ka tuna ranar da Allah zai tara ku a qiyama, don ya saka muku a kan ayyukanku, wannan ranar da asarar kafirai da tawayarsu zasu bayyana a fili, ta yadda muminai zasu gaji gidajen 'yan wuta da suke cikin Aljannah, su kuma 'yan wuta su gaji gidan 'yan Aljannah da suke cikin wuta. Duk wanda ya yi imani da Allah, kuma ya yi aiki nagari, to Allah zai kankare masa munanan ayyukansa, ya shigar da shi Aljannatai waxanda qoramu suke gudana a qarqashin gine-ginensu da bishiyoyinsu, za su dauwama a cikinsu har abada, baza su fita daga cikinsu ba, kuna ni'imar cikinsu ba zata yanke ba. Wannan abin da suka samu shi ne rabo mai girma, wanda babu rabon da ya fi shi.

**Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:** 1 - Yana daga cikin tsarawar Allah kasuwar mutane zuwa kashi biyu: 'Yan Wuta da 'Yan Aljannah. 2 - Daga cikin hanyoyi masu taimakawa a kan aikata ayyuka nagari, shi ne tuna irin asarar da wasu mutane zasu yi a ranar tashin alqiyama.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ  
مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ يَعْلَمُ  
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  
فَدَأَوْا بِآلِ أَمْرِئِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ  
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرٍ يَلُدُّونَنَا وَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى  
اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى  
وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ ثُمَّ لِلتَّبْثُوتِ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝  
فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
۝ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۝ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 خَالِدِينَ فِيهَا وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿١٣﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ  
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٤﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ  
 تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ  
 إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا أَرْزَأْتُمْ وَأَوْلَادَكُمْ عَدُوًّا  
 لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ  
 فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  
 وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ  
 شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٩﴾ إِن تَقْرَضُوا  
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ  
 حَلِيمٌ ﴿٢٠﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢١﴾

آيَاتُهَا

سُورَةُ التَّغَابُنِ

رَتَبَاتُهَا

١٣

10 Waxanda suka kafirce wa Allah, suka qaryata ayoyinmu, waxanda muka saukar wa Manzonmu, waxannan su ne 'yan wuta, kuma zasu dauwama a cikinta har abada, makomarsu ta yi muni.

11 Babu wata musiba da zata samu wani a karan-kansa ko cikin dukiyarsa, ko 'ya'yansa, sai da tsarawar Allah da hukuncinsa. Duk wanda ya yi imani da Allah da qaddararsa da hukuncinsa, to Allah zai datar da zuciyarsa da sallamawa lamarin Allah da qaddararsa. Allah Masani ne na dukkan komai, babu abin da yake vuya a gare shi.

12 Ku yi wa Allah xa'a, ku yi wa Manzo xa'a, amma idan kuka bada baya ga abin da Manzo ya zo muku da shi, to ku sani laifin wannan bada bayar yana kanku, babu abin da yake kan Manzonmu sai isar da abin da aka umarce shi da isarwa, kuma ya isar da abin da aka umarce shi.

13 Allah shi ne abin bautawa da gaskiya, babu wani abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba, kuma ga Allah shi kaxai ya kamata Muminai su dogara a cikin dukkan lamuransu.

14 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta, haqiqa wasu daga cikin matanku da 'ya'yanku maqiyanku ne, domin suna shagaltar da ku ga barin ambaton Allah, da yin jihadi a kan tafarkinsa, kuma suna kashe muku gwiwa, don haka ku yi taka-tsantsan da su, kada su yi muku tasiri, kuma idan kuka yafe musu kurakuransu, kuka rufa musu asiri, to ku sani fa Allah zai gafarta muku zunubanku, ya yi muku rahama, saboda sakamako ya kan zo

kamar irin aikin da aka yi.

15 Haqiqa dukiyarku da 'ya'yanku jarrabawace a gare ku, domin zasu iya saku ku nemi haramun, ku bar xa'ar Allah, kuma Haqiqa Allah yana da lada mai yawa a wurinsa, da ya tanada ga wanda ya fifita yi masa xa'a a kan biyewa 'ya'ya, ko shagalta da dukiya. Wannan ladan mai girma shi ne Aljannah.

16 Don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa, matuqar kun samu damar yi masa xa'a, kuma ku zamo masu ji da biyayya ga Allah da Manzonsa, ku sanya dukiyarku da Allah ya azurta ku da ita a cikin ayyukan alheri. Duk wanda Allah ya kare shi daga son kanshi, to waxannan su ne suka rabauta da abin da suke nema, kuma suka kuvuta daga abin da suke tsoro.

17 Idan kuka bawa Allah rance mai kyau, ta hanyar bayar da dukiyoyinku saboda Allah, to za a ninka muku lada, ta hanyar sanya lada xaya ya zama goma, har zuwa ninki xari bakwai, har zuwa ninki masu yawa, kuma ya gafarta muku zunubanku, Haqiqa Allah mai yawan godewa bayinsa ne, yana ba da lada mai yawa a kan aiki kaxan, kuma shi mai matuqar haquri ne, baya gaggauta saukar da uquba.

18 Allah mai tsarki masanin duk wani voyayyen abu ne, kuma masanin duk wani bayyananen abu ne, babu abin da yake vuya a gare shi daga cikinsu, kuma shi ne Mabuwayi wanda ba a rinjayarsa, kuma mai hikima a halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa.

### ◆ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

- 1 - Aikin Manzanni shi ne isar da saqon Allah, amma ita shiriya a hannun Allah kaxai take.
- 2 - Yin imani da qaddara yana haifar da nutsuwa da samun shiriya.
- 3 - Ana xorawa bayi ibada ne gwargwadon abin da zasu iya.
- 4 - Ninka ladan ayyukan mai ciyarwa saboda Allah.



## ❖ Daga Manufofin Surar:

Girmama lamarin saki da iyakokinsa, da bayanin qarshen lamarin tsoron Allah, da kuma qarshen lamarin qetare iyakokin Allah.

## ❖ Tafsir:

❶ Ya kai wannan Annabi, idan ka yi nufin sakin matarka, ko kuma wani cikin al'ummarka ya yi nufin sakin matarsa, to ya sake ta tana cikin farkon iddarta, shi ne sakin ya zama tana cikin tsarkin da bai sadu da ita ba a cikinsa, ku kiyaye idda, don ku samu damar dawo da matanku a cikin iddar, idan kun yi nufin dawo da su. ku ji tsoron Ubangijinku, ta hanyar kamanta umarninsa, da nisantar abubuwan da ya hana. Kada ku fitar da matan da kuka saki daga xakunansu, waxanda suke zaune a cikinsu, su ma kada su fita da kansu, har sai iddarsu ta qare, sai dai in sun zo da wata alfasha bayyananniya, kamar zina. Waxannan hukunce-hukunce su ne iyakokin Allah, waxanda ya iyakancewa bayinsa. Duk wanda ya qetare iyakokin Allah to ya zalunci kansa, saboda ya kai ta ga halaka, ta hanyar savawa Ubangijinsa. Baka sani ba – Ya kai wanda ya yi saki – wataqila Allah ya sanya so a cikin zuciyar miji bayan saki, sai ya dawo da matarsa.

❷ Idan suka kusa gama iddarsu, to ku dawo da su a cikin so da kyakkyawan zama, ko kuma ku qyale dawo da su xin, har iddarsu ta qare, sai su

mallaki lamarinsu, amma fa ku basu duk abin da yake haqqinsu ne. Idan kuka yi niyyar dawo da su, ko rabuwa da su, to ku sa shaida adalai biyu daga cikinku, don yanke husuma. Ya ku masu shaida, ku bada shaida don neman yardar Allah. Wannan abin da aka ambata na hukunce-hukunce ana tunatar da wanda ya yi imani da Allah ne da shi, kuma ya yi imani da ranar alqiyama, domin shi ne yake amfanuwa da wa'azi da tunatarwa. Duk kuwa wanda ya ji tsoron Allah, ta hanyar kamanta umarninsa, da nisantar abubuwan da ya hana, to Allah zai sanya masa mafita daga dukkan abin da ya faxa a ciki na qunci da damuwa. ❸ Ya azurta shi ta inda bai yi tsammani ba, duk wanda ya dogara ga Allah a cikin lamuransa to Allah ya isar masa, Haqiqqa Allah mai zartar da lamarinsa ne, babu abin da yake gagararsa, kuma babu abin da yake kuvce masa. Haqiqqa Allah ya sanyawa komai lokaci da yake tiqewa gare shi, don haka tsanani yana da lokaci, kuma yalwa ma tana da lokaci, babu xaya da yake dauwama ga mutum.

❹ Matayen da aka saki, waxanda suka yanke qaunar yin al'ada, sakamakon girman shekarun su, to idan kuka yi shakka a kan yadda zasu yi iddarsu, to ku iddarsu wata uku ce, kuma waxanda da basu kai shekarun yin al'ada ba, saboda qanqantarsu, su ma iddarsu wata uku ne. Mata masu juna biyu (ciki) qarshen iddarsu ta saki ko mutuwa ita ce: idan suka haife abin da yake cikinsu. Duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa, da nisantar abubuwan da ya hana, to Allah zai sauwaqe masa al'amuransa, kuma ya sauwaqe masa duk wani abu mai wahala. ❺ Wannan abin da aka ambata na hukunce-hukuncen saki, da kome, da idda, duk hukuncin Allah ne ya saukar a gare ku – Ya ku mumina - don ku yi aiki da shi. Duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, Allah zai kankare masa laifukansa waxanda ya aikata, kuma ya ba shi lada mai girma a lahira, shi ne shiga Aljannah, da samun ni'imar da bata qarewa.

❻ Wannan abin da aka ambata na hukunce-hukuncen saki, da kome, da idda, duk hukuncin Allah ne ya saukar a gare ku – Ya ku mumina - don ku yi aiki da shi. Duk wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, Allah zai kankare masa laifukansa waxanda ya aikata, kuma ya ba shi lada mai girma a lahira, shi ne shiga Aljannah, da samun ni'imar da bata qarewa.

## ❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Maganar da ake da Annabi (S.A.W) magana ce ga dukkan al'ummarsa, matuqar dai ba wani dalili ba ne ya nuna da shi kaxai a ke ba. 2 - Wajabcin ba wa matar da aka saki, sakin da akwai kome a cikinsa wurin zama da abinci. 3 - An so a kafa shaidu domin kaucewa savani.

4 - Tsoron Allah yana da fa'idoji masu yawa.

سُورَةُ الْخَالِقِ
٥٥٨
الْمُرْتَدِّ الْقَائِمِينَ وَالْعَشْرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ❶

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ  
بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مَخْرَجًا ❷ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
فَهُوَ حَسْبُهُ وَإِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ  
قَدْرًا ❸ وَالَّتِي يَبْسُغُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ  
أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ  
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ❹ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ❺

Suratux Xalaq
558
Juzu'i 28

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لِهَ الْأُخْرَى ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ  
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا  
مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ  
عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِهَا عَذَابًا  
نُّكْرًا ٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَابُهُ أَمْرًا حَسْرًا ٩ أَعَدَّ اللَّهُ  
لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ  
اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١٠ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن  
بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ وَرِزْقًا ١١ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٢

Yayin da Allah ya bayyana hukuncin saki da kome, sai kuma ya bayyana hukuncin ciyarwa da wurin zama, ya ce:

6 Ya ku mazaje ku zaunar da matayenku a inda kuke zaune daidai iyawarku, Allah ba zai xora muku fiye da haka ba, kuma kada ku cutar da su wurin ciyarwa ko wurin zama, ko a wani abu daban kawai don ku quntata musu. Idan matan da aka saka masu juna biyu ne (Wato ciki) to ku ciyar da su har sai sun haife abin da yake cikinsu, idan kuma suka shayar muku da 'ya'yanku, to ku basu ladan shayarwar su, ku yi shawara da juna a kan ladan da zaku ba su a bisa adalci, idan miji ya qi ba mace abin da take so na lada, ita kuma ta qi yarda sai dai abin da take so, to uba ya xauki hayar wata mai shayarwar daban, ta shayar masa da xansa.

7 Wanda yake da wadatar dukiya, to ya ciyar da matar da ya saki, da xansa da ake shayarwa, daga yalwar da Allah ya bashi, wanda kuma aka quntatawa arzikinsa to ya ciyar daga abin da Allah ya ba shi, Allah baya xorawa wata rai sai abin da ya ba ta, baya xora mata sama da haka, ko sama da abin da ba zata iya ba. Allah zai sanya yalwa da wadata bayan qunci da tsanani.

Yayin da Allah ya ambaci abubuwan da ya bada umarni a kansu, sai kuma ya tsawatar a kan bijirewa waxannan umarnin, ya bayyana cewa qarshensu mummuna ne, ya ce:

8 Alqaryatan da suka savawa Allah da umarnin Manzanninsa suna da yawa, waxanda muka yi musu hisabi mai tsanani a kan munanan

ayyukansu, kuma muka azabta su azaba mai firgici a duniya da lahira.

9 Sai waxandanan alqaryatai suka xanxani sakamakon munanan ayyukansu, kuma qarshensu ya zama asara a duniya, kuma asara a lahira.

10 Allah ya tanadar musu azaba mai qarfi, don haka - Ya ku ma'abota hankula, waxanda suka yi imani da Allah da Manzonsa, ku ji tsoron Allah, ta hanyar kamanta umarninsa da barin abubuwan da ya hana, don kada abin da ya same su ya same ku. Haqiqa Allah ya saukar muku da tunatarwa, da yake tunatar da ku mummunan qarshen savonsa, da kuma kyakkyawan qarshen yi masa biyayya.

11 Wannan tunatarwar ita ce: Manzo daga gare shi, wanda yake karantar da ayoyinsa bayyanannu, waxanda babu wani ruxani a cikinsu, domin kwaxayin ya fitar da waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka gasgata Manzonsa, suka yi aiki nagari, daga cikin duffai na vata zuwa hasken shiriya. Duk wanda ya yi imani da Allah, kuma ya yi aiki nagari, Allah zai shigar da shi Aljannatai waxanda qoramu ke gudana ta qarqashin gidajensu da bishiyoyinsu, za su dauwama a cikinsu har abada, Haqiqa duk wanda Allah ya yi masa haka, to ya kyautata masa arziki, ta inda ya shigar da shi Aljannar da ni'imarta bata yankewa.

12 Allah ne ya halicci sammai guda bakwai, kuma ya halicci qassai guda bakwai, kamar yadda sammai suke guda bakwai, lamarin Allah na gudanar da duniya, da kuma lamarin sa na shari'a suna sauka a tsakaninsu, don kwaxayin ko zaku san cewa Allah mai iko ne a kan komai, babu abin da yake gagararsa, kuma Allah ya kewaye komai da sani, babu abin da yake vuya a gare shi, a cikin sammai ko a cikin qassai.

### Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Rashin wajabcin shayarwa ga mata masu ciki idan aka sake su.

2 - Allah baya kallafawa mutum sai abin da zai iya.

3 - Yin imani da ikon Allah, da kuma kewayewar iliminsa ga komai, yana janyo mutum ya yarda da hukuncin Allah, da samun nutsuwa a zuciyar.

## ❖ Daga Manufofin Surar:

Bayanin irin tarbiyyar gidan Annabta, domin ya zamo abin koyi ga kowane iyali, da kuma kowace irin zamantakewa baki xaya.

## ❖ Tafsir:

❶ Ya kai wannan Manzo, don me kake haramtawa kanka abin da Allah ya halatta maka, na jin daxi da kuyangar ka Mariya, kana neman yardar matanka da hakan, yayin da suka yi kishi da ita. Allah mai yawan gafara ne gare ka, kuma kai jinqan ka.

❷ Haqiqa Allah ya shar'anta muku warware rantsuwarku ta hanyar yin kaffara, idan kuka samu abin da ya fi ta alheri, ko kuka warware ta. Allah mai taimakon ku ne, kuma shi ne masanin halinku da abin da ya dace da ku, kuma mai hikima a cikin shari'arsa da tsarinsa.

❸ Ka tuna lokacin da Annabi (S.A.W) ya kevinci Nana Hafsa da wani labari, shi ne, ba zai qara kusantar kuyangarsa Nana Mariya ba. Yayin da Nana Hafsa ta ba wa Nana Aisha labarin, Allah ya sanar da Annabinsa (S.A.W) cewa an yaxa masa sirrinsa, sai ya zargi Hafsa, ya faxa mata wani sashe daga abin da ta faxa, kuma ya yi shiru ga wani sashe, sai Hafsa ta tambaye shi ta ce: "Wane ne ya faxa maka wannan maganar?". Sai ya ce: "Wanda ya san dukkan komai, da abin da yake voye ne ya bani labari".

❹ Ya wajaba a kanku, ku biyun duk ku tuba ga Allah, domin zuciyoyin ku sun karkata ga son abin da Annabi (S.A.W) baya so, shi ne, nisantar kuyangarsa, da haramtawa kansa ita, amma idan kuka ci gaba da taron dangi a kansa, to ku sani fa Allah ne majivincin lamarinsa, kuma mai taimakonsa, haka ma Mala'ika Jibrilu, da zavavvun Muminai su ma duk mataimakansa ne, kuma masu jivintar lamarinsa ne. Mala'iku ma gaba xaya masu taimaka masa ne a kan duk wanda zai cutar da shi, bayan taimakon Allah gare shi.

❺ Ya kusa Ubangijinsa mai tsarki idan Annabinsa ya sake ku, ya canza masa waxanda suka fi ku alheri, masu biyayya gare shi, masu imani da Allah da Manzonsa, masu xa'a ga Allah, masu tuba daga zunubansu, masu bautawa Ubangijinsu, masu yin azumi, zawarawa, da budurwai, waxanda babu wanda ya kusance su, sai dai shi. Sai dai Annabi (S.A.W) bai sake su ba.

❻ Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, ku sanyawa kanku da iyalanku kariya daga wuta mai girma, wadda ake hura ta da mutane da duwatsu, kuma akan wannan wuta akwai Mala'iku masu zafin rai ga duk wanda ya shige ta, masu tsanani, basa savawa Allah idan ya basu umarni, kuma suna aikata da abin da ya umarce su da shi, ba tare da wani jinkiri ba.

❼ Za a cewa kafirai a ranar alqiyama: "Ya ku waxanda suka kafirce wa Allah, kada ku bada wani uzuri a wannan rana ta yau, a kan abin da kuke kai na kafirci da savo, domin ba za a karvi uzurinku ba, kuma ku sani a wannan rana ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya, na kafircewa Allah da qaryata Manzonsa.

## ❖ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - An shar'anta yin kaffarar rantsuwa.

2 - Bayanin matsayin Annabi (S.A.W) a wurin Ubangijinsa, da yadda yake ba shi kariya.

3 - Yana daga karamcin Annabi (S.A.W) ga matansa, baya zurfafawa wajen faxa da zargi, yana kawar da kai daga wasu kurakuran, don tabbatar da soyayya a tsakaninsu.

4 - Nauyin da yake kan mumini dangane da kansa da iyalansa.

سُورَةُ التَّحْرِيمِ
٥٦٠
الجزء الثامن والعشرون

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتَّغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٢

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأُكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ٣

تَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِّحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَكِيَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ٤

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنْ مَّسَلَمْتِ مُؤْمِنَتٍ قَدْتِ تَبَّتِ عِدَاتِ سَدِّحَتِ تَبَّتِ وَأَبْكَرًا ٥

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

يَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا جُزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧

Suratut Tahrir
560
Juzu' i 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ  
 أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا  
 مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
 أَتَمِّمْنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ  
 وَمَأْوَاهُم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُمَّرَاتِ نُوحٍ وَأُمَّرَاتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ  
 عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا  
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾  
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أُمَّرَاتِ فِرْعَوْنَ إِذْ  
 قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ  
 وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرِيَمَ ابْنَتَ  
 عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا  
 وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ فِيهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَائِمِينَ ﴿١٢﴾

8 Ya ku waxanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu, ku tuba zuwa ga Allah daga zunubanku, tuba na gaskiya, ya kusata Ubangijinku ya kankare muku zunubanku, kuma ya shigar da ku Aljannatai waxanda qoramu ke gudana a qarqashin gineginensu da bishiyoyinsu a ranar alqiyama, ranar da Allah baya qasqantar da Annabi, kuma baya qasqantar da waxanda suka yi imani da shi, ta hanyar shigar da su wuta. Haskensu yana tafiya a gabansu da damansu a kan siraxi, suna cewa: "Ya Ubangijinmu ka cika mana haskenmu, har mu shiga Aljannah, kada mu kasance kamar Munafikai waxanda haskensu yake dushewa a kan siraxi, ka gafarta mana zunubanmu, Haqiqa kai mai iko ne a kan komai, don haka ba zaka gajiya ba wurin cika mana haskenmu, da gafarta mana zunubanmu.

9 Ya kai wannan Manzo, ka yaqi qafirai da takobi, Munafukai kuma da harshenka da tsayar musu da haddi, kuma ka tsananta musu har su riqa tsoronka. Makomarsu da zasu koma gare ta ranar alqiyama ita ce wutar Jahannama, makomarsu ta yi muni.

10 Allah ya buga misali ga waxanda suka kafirce wa Allah da Manzanninsa – a kan cewa alaqarsu da mumina bata amfani – ya buga misali da matan Annabawa guda biyu su ne: Annabi Nuhu da Annabi Luxu (A.S), Haqiqa sun kasance mataye ne na bayin mu guda biyu nagartattu, sai suka ha'inci mazajen su, ta hanyar abin da suke

kai na kange mutane daga tafarkin Allah, da taimakon ma'abota kafirci a cikin mutanensu, don haka kasancewarsu matan waxannan bayi nagartattu bai amfane su ba. Aka ce da su: "Ku shiga wuta tare da waxanda zasu shige ta daga kafirai da fasiqai".

11 Allah ya bugawa waxanda suka yi imani da Allah da Manzanninsa misali cewa dangantakarsu da kafirai ba zata cutar da su komai ba, matuqar suna kan gaskiya, da halin matar Fir'auna, lokacin da ta ce: "Ya Ubangiji ka gina min gida a wurinka a cikin Aljannah, kuma ka kuvutar da ni daga danniyar Fir'auna da mulkinsa, da munanan ayyukansa, kuma ka kuvutar da ni daga azzaluman mutane, waxanda suka zalunci kawunansu, ta hanya biye masa a kan xagawarsa da zaluncinsa.

12 Allah ya bugawa waxanda suka yi imani da Allah da Manzanninsa misali da halin Nana Maryam 'yar Imrana, wadda ta kiyaye farjinta daga aikata zina, sai Allah ya umarci Mala'ika jibrilu ya yi busa a jikinta, sai ta xauki cikin Annabi Isa da ikon Allah ba tare da uba ba, kuma ta gasgata da shari'o'in Allah, da littafansa, waxanda ya saukar wa Manzanninsa, kuma ta kasance daga cikin masu yi wa Allah xa'a, ta hanyar kamanta umarninsa, da nisantar abubuwan da ya hana.

### ✿ Kaxan Daga Abin Da Waxannan Ayoyi Suke Koyarwa:

1 - Tuba na gaskiya shi ne sababin kowane alheri.

2 - Haxa jihadin ilimi da hujja tare da jihadin takobi yana nuna muhimmancinsu, kuma ba za a iya wadatuwa daga barin xaya daga cikinsu ba.

3 - Alaqar jini ko ta kusanci bata amfanar da mai ita ranar tashin alqiyama, idan addini ya raba tsakaninsu.

4 - Kamewa da nisantar zargi xabi'ar mata nagari mumina ce.